



This product contains a light source of energy efficiency class <F>  
Non replaceable light source.



**CANTO KUBI 2**





**DKN** - Lampen er kun beregnet til direkte/fast montering til lysnettet.

**SWE** - Lampan är endast beräknad till direkt/fast montering till ljusnätet.

**NOR** - Lampen er kun beregnet til direkte/fast montering til lysnettet.

**ISL** - Ljósíði er einungis áttuð fyrir beina/fasta uppsetningu við rafslögningu.

**NLD** - Het armatuur is alleen maar berekend voor directe/vaste montage op het lichtnet.

**FRA** - La lampe n'est prévue que pour un montage direct au réseau électrique.

**DEU** - Die Lampe ist nur zur direkten/festen Montage an die Stromversorgung ausgelegt.

**GBR** - The lamp is only suitable for connecting directly to the mains.

**ESP** - La lámpara está únicamente diseñada para la conexión directa permanente a la red eléctrica.

**PRT** - A lámpada é adequada só em directo contacto com energia.

**ITA** - La lampada è adatta solamente per il collegamento diretto alla rete elettrica.

**FIN** - Valaisimien saa käytäksesi ainoastaan päävirtaan.

**POL** - Lampa jest wyłącznie dostosowana do bezpośredniego/stałego podłączenia do sieci zasilania.

**HRV** - Svetiljka je prikladna samo za neposredno spajanje na mrežu.

**ESP** - Valgusti sobib ühendamiseks ainult otse vooluvõrku.

**LVA** - Lampe ir domāta tikai tiešlai pastoviā montuoti prie šviesos tīklo.

**LTU** - Lampa yra skirta tik tiešlai ir pastoviā montuoti prie šviesos tīklo.

**SVK** - Lampa je vhodná len na priame napájanie na elektrickú sieť.

**HUN** - A lámpa csak az elektromos hálózatba való közvetlen bekötésre alkalmas.

**ROM** - Lampa este facuta doar pentru montarea directă la sistemul de lumina.

**CZE** - Lampa je konstruována na prímo/pevnou montáž na sít.

**SVN** - Svetiljka je primerna le za direktno priključitev na električno omrežje.

**GRC** - Το φωτιστικό προορίζεται μόνο για σπουδαίες σύνδεση με τον κεντρικό συγκό διανομής.

**TUR** - Bu ışının direkt ve sabit montajı ana akıma/sebekeye göre hesaplanmıştır.

**BGR** - Лампата е предназначена само за монтаж/директно спирване към електроподаването ( да не се използва като поддържка/лампа).

**SRB** - Lampu je pogodna za povezivanje direktno na električnu mrežu.

**RUS** - Светильник предназначен только для установки непосредственно в электрическую сеть.

مصابيح شفاف بملامح (مثقب) راحة سهلة التركيب على ملمس جذع مصباح



**DNK** - Klasse I: Lampen har jordterminal skal derfor tilsluttes installationens gul/grønne jordledning.

**SWE** - Klass I: Lampan har anslutning till jord och skall därför anslutas gulgrön jordledning.

**NOR** - Klasse I: Lampen har jordterminal og skal derfor tilsluttes installationsens gul/grønne jordledning.

**ISL** - Flökkrur I: Ljósíði hefur jordtengingu og því skal tengja þú við gulu/grænu jordtengina.

**NLD** - Klasse I: Het armatuur is uitgerust met een aardiklem en moet daarvoor aan de gele/groene aarddraad aangesloten worden.

**FRA** - Classe I: La lampe a une connexion à la borne de terre, il faut donc la connecter au fil de terre jaune et vert de l'installation.

**DEU** - Klasse I: Die Lampe hat eine Erdungsklemme und muss deshalb an die gelb/grüne Erdleitung angeschlossen werden.

**GBR** - Class I: The lamp has an earth terminal and must be connected to the yellow/green earth wire.

**ESP** - Clase I: La lámpara tiene terminal de tierra, así que debe conectarse al cable amarillo/verde de tierra de la instalación.

**PRT** - A lámpada contém uma ligação a terra, têm que ser ligados os fios amarelos e verdes.

**ITA** - Categoria I: La lampada ha un terminale per la messa a terra che si deve collegare al filo di terra giallo/ verde dell'impianto elettrico.

**FIN** - Suojausluokka I: Valaisin on maadoitettava, ja siksi se pitää yhdistää asemukseen maajohtoon (kettainen/vihreä).

**POL** - Klasa I: Lampa posiada zacisk uziemiający i dlatego musi być podłączona do żółto-zielonego przewodu uziemienia.

**HRV** - Klasa I: Svetiljka posjeduje priključak za uzemljenje i mora se priključiti na žutu/zelenu vodici za uzemljenje.

**EST** - Klass I: Valgustil on maandusklemm ning selle peab ühendama kollase/rohelise maandusluigtmeega.

**LVA** - veida lampu: Lampu ir jāiezemē prieviņojot to pie instalācijas dzelzsbetnāzājā izzemējuma vada.

**LTU** - Klase I: Lampa tur įzemintiną, del to turėti būti prijungiamai prie instalacinių geltonai žaliu įzemintimo laidų.

**SVK** - Trieda I: Lampa má uzemnený terminál a musi byť spojená so žltym/zeleným uzemňovacím drôtom.

**HUN** - I. kategória: A lámpa földcsatlakozóval rendelkezik, amelyet a sárga/zöld fűzővezetésekkel csatlakoztatni.

**ROM** - Clasa I: Lampă are impământare, de aceea trebuie să fie conectată la cablul de impământare galben/verde.

**CZE** - Trieda I: Svetiljka ima ozemljivaci priključek in jo je zato treba priključiti na rumeno/zeleni ozemljivaci vodnik.

**GRC** - Βαθμός προστοσίας I: Το φωτιστικό διαθέτει σύστημα γειώσης, καθώς πρέπει να συνδέεται με το κίτρινο/πράσινο καλώδιο γειώσης.

**TUR** - Sinif 1: Bu ışının topaklaması vardır. Topaklı hattı (sarı / yesil) bir kılıp baglanmalıdır.

**BGR** - Klas I: Lampana ima klemma за заземяване, която трябва да се свърже със жълто/зелено заземителен проводник на мястото на свртка.

**SRB** - Klasa I: Lampa ima priključak uzemljenja i mora da se poveže na žutu/zelenu žicu uzemljenja.

**RUS** - Класс I: Светильник имеет заземление и должен подключаться к жгуту/зеленому земляному проводу.

ضوابط منزلاً تثبيت أسلوب بيع تغذية طير جاصيلان : دليل آمن

رجوعاً / رخصاً تأثيرهاب .



**DNK - VIKTIGT!** Sluk altid for strømmen, før installationen påbegyndes. I nogle lande må elektriske installationer kun udføres af en uddannet elektriker. Få oplysninger hos de relevante myndigheder.

**SWE - VIKTIGT!** Stäng altid av strömmen innan installationen påbörjas. I vissa länder får elektrisk installation endast utföras av auktoriseraad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för råd.

**NOR - VIKTIG!** Elektriske installasjoner skal utføres av elektriker. Steng av strømforsyningen til strømkretsen med riktig sikring før installasjonsarbeidet påbegynnes.

**ISL - MIKILVÆGTT!** Sláðið raflagnið úr áður en uppsetning hefst. I sumum löndum þarf uppsetning að vera framkvæmd af löggiðum ráfríkja. Leitilð ráða hjá ráfríkja varðandi uppsetninguna.

**NLD - BELANGRIJK!** Schakel de stroom altijd uit voordat met de installatie wordt begonnen. In sommige landen mogen elektrische installaties alleen worden uitgevoerd door een bevoegd elektricien. Neem daarom contact op met de plaatselijke overheid voor advies.

**FRA - ATTENTION !** Toujours couper l'alimentation au panneau principal avant de procéder à l'installation. Dans certains pays, l'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Pour en savoir plus, contacter les autorités locales compétentes en la matière.

**DEU - WICHTIG!** Vor der Installation den Strom abschalten. In einigen Ländern dürfen Elektroinstallatoren nur von autorisierten Elektrofachleuten ausgeführt werden. Im Zweifelsfall die örtlichen Behörden ansprechen.

**GBR - IMPORTANTE!** Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by a authorized electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.

**ESP - IMPORTANTE!** Desconecta siempre el interruptor general de la electricidad antes de iniciar cualquier trabajo de instalación. En algunos países, la instalación eléctrica sólo puede realizarla un electricista profesional. Póngase en contacto con las autoridades locales para saber cuál es su caso.

**PRT - IMPORTANTE!** Desligue sempre a corrente eléctrica antes de começar um trabalho de instalação. Em alguns países os trabalhos de instalação eléctrica só podem ser realizados por um electricista autorizado. Contacte a sua autoridade local de eletricidade para aconselhamento.

**ITA - IMPORTANTE!** Togl sempre tensione al circuito prima di iniziare l'installazione. In alcune nazioni l'installazione elettrica può essere effettuata solo da un elettricista autorizzato. Per maggiori informazioni, contatta l'autorità locale per l'energia elettrica.

**FIN - TÄRKÄÄÄ!** Katkaise aina virta päätekalaisimesta ennen asennuksen aloittamista. Joissakin maissa asennuksen saa tehdä ainostaan ammattilaitsoinen sähköasentaja. Ota selvää paikallista määräykisistä.

**POL - WAŻNO!** Przed rozpoczęciem instalacji odłącz zasilanie. W niektórych państwach instalacje elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. Skontaktuj się z odpowiednimi instytucjami, aby uzyskać poradę.

**HRV - VAŽNO!** Uvijek isključite napajanje prije početka instaliranja. U nekim zemljama, električne instalacije smije vršiti samo ovlašteni elektrikar. Za savjet, kontaktirajte svog lokalnog ovlaštenog električara.

**EST - OLULINE!** Lülitage vooluvõrgu toide alati välja enne paigaldamistöö alustamist. Mõnedes riikides tööb elektriseadmetestiku paigaldamist teostada ainult elektritiööde volitatud töövõtja. Pöörduge nõu saamiseks kohaliku elektriameti pool.

**LVA - SVARĪGI!** Vienmēr izslēdziet elektropadovi, pirms sākat veikt montāžas darbus. Alsvītīgā valstīs elektromontāžu drīkst veikt tikai pilnvarotie elektromontāžas darbu zālēmējs. Neskaidrību gadījumā sazinieties ar savu viļņojo elektroapgādes iestādi.

**LTU - SVARBU!** Prieš pradėdami elektros instalacijos darbus, visada išjunkite elektros energiją. Kai kurios salyse elektros instalacijos darbus gali atlikti tie leidim tam turintis elektrikas. Kreipkitės į atitinkamas institucijas ir pasitiksimite.

**SVK - Dôležité!** Pred instaláciou vždy odpojte zo sieti. Zistite si, či nepatrie medzi tie krajiny, kde instaláciu môže uskutočniť výlučne elektrikár. O radu požiadajte vašu lokálnu autoritu.

**HUN - FONTOS!** minden esetben kapcsold le az áramot mielőtt elkezded a munkát. Néhány országban elektromos installációt kizárolag szakember végezhet. Ezzel kapcsolatban érdeklődj elektromos szolgáltatódnál.

**ROM - ATENȚIE!** Opriți întotdeauna alimentarea cu curent electric înainte de a începe lucrările de instalare. În unele țări, operațiunile de instalare pot fi efectuate numai de către un instalator autorizat. Pentru mai multe informații, contactați autoritatea locală care gestionează energia electrică.

**CZE - DŮLEŽITÉ!** Pred instalacíou vždy odpojte ze sítě. V některých zemích může instalaci provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Kontaktujte o radu nejbližšího elektrikáře.

**SVN - POMEMBNOI!** Pred začetkom dela vedno izklopite električno napajanje. V nekaterih državah sme električno napajavo naprejevali le pooblaščeni elektrikar. Za nasvet se obrnite na najbolj pooblaščeni servis.

**GRC - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Πριν από την έναρξη της εργασίας συγκρότησης, υπό δικαιώματος μέσω την περούχη ρύθμισης θε πρέπει να προηγουμοντοποιηθεί μάλιστα από ένα εξουποδομένο ηλεκτρολόγο. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρία ηλεκτροφρού μη την περούχη ίση.

**TUR - ÖNEMLİ!** Kurulumda başlamadan önce her zaman elektrik devresini kesinlikle. Bazi ülkelerde elektrik kurulum işlemi sadece yetkili elektrik teknikleri tarafından yapılmaktadır. Size en yakın yerel elektrik idaresi ile temas kurarak bu konuda bilgi alabilirsiniz.

**SRB - ВАЖНО!** Винаги изключите струју пре него што почетете с инсталацијом. У појединим државама електро-инсталације могу да поставе само особе с овлашћењем. Обратите се локалној електро-дистрибуцији за савет.

**RUS - ВНИМАНИЕ!** Перед установкой всегда отключите электропитание. В некоторых странах электроустановка должна производиться только квалифицированным электриком. Обратитесь за консультацией в соответствующие местные инстанции.

مهم: آخر داليا على إيقاف تشغيل الطاقة قبل بدء التركيب. في بعض البلدان، لا يجوز إجراء الترتيبات الكهربائية إلا بواسطة كهربائي مُدرّب.

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات المختصة.



**DNK** - Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald for brugens i private husholdninger i EU. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med den overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortsættes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

**SWE** - Hur användare i privatvärlden inom EU kasseras utrustning på korrekt sätt. Denna symbol visar att den här produkten inte får kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller ämnen som kan skada människor och miljö om den inte återvinns på korrekt sätt. Du ansvarar för att överlämna produkten till lämpligt insamningsställe för återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall. När du kasseras produkten sätts att den kan återvinnas på rätt hjälper du till att förhindra att den påverkar natur och miljö negativt och du bidrar till att skydda människors hälsa. Mer information om hur du kasseras produkten korrekt kan du få via kommunen, ditt avfallshanteringsbolag eller den butik där du köpte produkten.

**NOR**- Kassing av utstyr fra private husholdninger i EU. Detto symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder stoffer som kan forårsake skade på menneskers helse og på miljøet hvis utstyr ikke resirkuleres riktig. Det er ditt ansvar å levere utstyret til et innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Ved å levere utstyret til resirkulering bidrar du til å hindre at disse produktene påfører naturen og miljøet unedig belastning, samt til å beskytte menneskers helse. Kontakt lokale myndigheter, det lokale renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer informasjon om riktig kassing.

**ISL** - Fórgun úrgangsefna frá notendum á einkaheliumum í Evrópusambandinu. Þetta takn gefur til kynna að ekki má fága þessar vörur með öðru helmisíðum. Raflagns og rafeindabundinu innihaldu efnir sem geta valdzt skada á heilsu fólkis og umhverfis eftir þau en ekki endurunnið á réttan hátt. Þeir eru á því að býggja að að henni gildi stað til endurunniðu raflagns og rafeindatækji. Þegar þú aðferdir til réttar endurunniðu hlíðar þeit að koma í veg fyrir að þessar vörur valdi óþára skada á náttúru og umhverfi og við að verndu heilsu manna. Tali að frá frekri upplýsingar um réttá fórgun, vinsameglast hafið samband við þín borgarvirföld, næstu móttökustöð eda verslunina þar sem þú keypti vörurna.

**NLD** - Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparaten uit particuliere huishoudens in de Europese Unie. Dit symbool geeft aan dat u dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag afvoeren. Elektrische en elektronische apparaten bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu als ze niet correct worden gerecycled. Het is uw verantwoordelijkheid om dit product af te geven bij een inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product op de juiste wijze af te voeren, helpt u voorkomen dat deze producten de natuur en het milieu onnodig belasten en de menselijke gezondheid schaden. Neem voor meer informatie over een correcte afvoer contact op met uw gemeente, het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

**FRA** - Élimination des appareils mis au rebut par les ménages dans l'Union européenne. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nuisibles à la santé humaine et à l'environnement en cas de recyclage non conforme. Il est de votre responsabilité de déposer vos appareils dans les centres de collecte désignés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En confiant votre appareil à un centre de recyclage désigné, vous contribuez à la préservation de la nature et de l'environnement ainsi qu'à la protection de la santé humaine. Pour obtenir plus d'informations sur l'élimination correcte de vos déchets, contactez les autorités locales, le service de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

**DEU** - Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union. Dieses Symbol weist darauf hin, dass

dieses Produkt nicht mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Elektro- und Elektronikgeräte enthalten Stoffe, die bei nicht ordnungsgemäßer Wiederverwertung Schäden an Mensch und Umwelt verursachen können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Elektro- und Elektronikgeräte an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abzugeben. Bei der Abgabe zum ordnungsgemäßen Recycling tragen Sie dazu bei, die unnötige Belastung von Natur und Umwelt durch diese Produkte zu vermeiden und die menschliche Gesundheit zu schützen. Für weitere Informationen bezüglich der korrekten Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Bürgerbüro, Ihren Hausmüll-Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

**GBR** - Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union. This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Electrical and electronic equipment contain substances which may cause damage to human health and environment if not recycled correctly. It is your responsibility to hand over to a designated collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment. When handing over for correct recycling you help to prevent these products straining nature and environment unnecessarily and to protect human health. For more information regarding correct disposal, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store where you purchased this product.

**ESP** - Eliminación de equipos usados por usuarios en viviendas particulares en la Unión Europea. Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Los equipos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden dañar la salud humana y el medio ambiente si no se reciclan correctamente. Es su responsabilidad entregarlo en un punto de recogida indicado para el reciclaje de equipos usados eléctricos y electrónicos. Cuando entrega un producto para un reciclaje correcto, usted ayuda a prevenir que estos productos dañen la naturaleza y el medio ambiente innecesariamente y a proteger la salud humana. Para obtener más información sobre la eliminación correcta, póngase en contacto con la oficina local de su ciudad, su servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde compró este producto.

**PRT** - Eliminação de equipamentos usados por parte de utilizadores em residências privadas na União Europeia. Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Os equipamentos elétricos e eletrônicos contêm substâncias que podem causar danos à saúde humana e ao meio ambiente se não forem reciclados corretamente. E da sua responsabilidade entregar a um ponto de recolha designado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos usados. Quando entregar a entrega para a reciclagem correta, ajuda a evitar que esses produtos sobrecarreguem a natureza e o meio ambiente desnecessariamente e ajuda a proteger a saúde humana. Para obter mais informações sobre a eliminação correta, entre em contato com a Câmara Municipal local, o serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu este produto.

**ITA** - Smaltimento di rifiuti di apparecchiature da parte di utenti privati nell'Unione europea. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze che possono causare danni alla salute umana e all'ambiente se non riciclate correttamente. È responsabilità dell'utente consegnare a un punto di raccolta per il riciclaggio le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consegnando questi prodotti per un corretto riciclaggio, si aiuta a prevenire che questi danneggino la natura e l'ambiente, e a proteggere la salute umana. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento corretto, contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

**FIN** - Kotitalousliikkeiden läitetromu hävitämisen EU-alueella. Symboli osoittaa, että tästä tuotteesta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät ainetta, jotka voivat olla haitallisia terveydelle ja ympäristölle, jos niitä ei hävitettäisi asianmukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden on toimiteltava asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätäväksi. Kun toimitat romun asianmukaiseen keräyspisteeseen, estät laitteita aiheuttamasta yllämaista kuormitusta luonolle ja ympäristölle ja suojelet ihmisen terveyttä. Lisätietoja laitteiden asianmukaisesta hävitämisestä saat ottamalla yhteyden kotipaikka viranomaisiin, kotisi jätehuollostusta vastaavaan yritykseen tai myymälään, josta hankit tämän tuotteen.

**POL** - Pozbywanie się zuzyciego sprzętu w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej. Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyzuczać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Obowiązkiem użytkownika jest dostarczyć zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny do właściwego punktu zbiórki celem przekazywania do recyklingu. Postępując w ten sposób, pomaga się zapobiegać szkodom, jakie produkty te mogłyby wyzrądzić przyrodzie i środowisku, oraz wspiera się ochronie ludzkiego zdrowia. Więcej informacji na temat właściwego sposobu przekazywania do utylizacji można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, firmie zajmującej się odbiorzem odpadów lub sklepie, który sprzedaje produkt.

**HRV** - Odlaganje odpadne opreme koju provode korisnici u privatnim kućanstvima u Evropskoj Uniji. Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati skupa s drugim otpadom kućanstva. Električna i elektronička oprema sadrže tvari koje mogu naškoditi ljudskom zdravju i životnom okolišu ako ju se ne reciklira pravilno. Vaša je odgovornost predati otpadnu električku i elektroničku opremu na predviđenom mjestu za prikupljanje radi recikliranja. Predajom ove opreme radi pravilnog recikliranja pomaze da se spreči nepotrebno ugrožavanje prirode i životnog okoliša te zaštiti ljudsko zdravje. Više informacija o pravilnom odlaganju potražite u lokalnoj gradskoj službi, vašoj komunalnoj službi za otpad ili u dućanu u kojem ste kupili ovaj proizvod.

**EST** - Seadmene jahtemine käitumine kasutatakse poolt Euroopa Liidu eiramajapidamistes. See sümbool näitab, et seda tooteid ei tohi käitada koes teie muude olmejaätmetega. Elektri- ja elektroonikaasemad sisalduvad ainlast, mis võib vältida õige laastrotõttuse eiramisele kaühastuda inimeste tervist ja keskkonda. Teie vastutuse seisle üle andmine eest elektri- ja elektroonikaasemade jahtimete ümbertöötustuse kogumispunkti. Oigeks ümbertöötustise üle andmisega ütlete vältida eelkäijaliku looduse ja keskkonna koormamendi nende tooteidega ning kaista inimeste tervist. Täiendaoleva teabe saamiseks õige käitumise kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, olmejaätmete kõrvaldamise teenusest või poega, kust se teoste tööle.

**LVA** - Leteriik atruktuuri izmēšana privātājā mājsaimniecības Eiropas Savienībā. Šis simbols nozīmē, ka šo produktu nedrīkst izmest mājsaimniecības atrukturom. Elektriskais un elektroonikas ierīces satur vielas, kas var radīt jaitejumu cilvēku veselībai un apkārtējiem videi, ja nešķelet pareizi nodotus atrukturom. Jūs esat atbildīgi par elektrisku un elektrooniku ierīciem, nodošanu šīm nolikumam paredzētā savākšanas punktā. Nododot šīm ierīcēm pārstrādi, jūs palīdziet novērst šo produktu noploķību dabā un apkārtējiem vietā, tādēļai aizsargājot cilvēku veselību. Papildu informāciju par pareizu nodošanu atrukturom jautajiet savā pašvaldībā, mājsaimniecības atruktuuru savākšanas uzņēmumā vai veikalā, kurā legādatīties šo preci.

**LTU** - rangs atlik ūtolinim priva i naudotui nam kusei Europes 5 junijo. Šis simbols nurodo, kad gamini negaliama īsmēt kartu su klumis būtin mis atlikomis. Elektriš kura ir elektronis jo rangile yra medžiag , galin i pakendis žmogus sveikat ir aplinki, jo rangi reikinami perdirbama. Privatai pristatysi elektriš ir elektronis rang special atlik surinkimo ir perdirbimo punkt. Pristatymai mi i rang tankam perdirbti, jodated īvērti žalos gantai ir aplinkai bei apsugoti žmogus sveikat . Daugiau informacijos apie tankam perdirbim tauruks s vietin iestu administracijoje, nam kio atlik tvarkyme tamboje arba šio gaminu gandarino vietoje.

**SVK** - Likvidácia odpadu používateľmi v súkromných domácnostiach u Európskej úni. Tento symbol znamená, že produkt sa nesmie zlikvidovať s iným domácom odpadom. Elektrické a elektrónické zariadenia obsahujú látky, ktoré môžu mať neprávny recyklovací poškodenie fudske zdravia a životné prostredie. Ste zadovolení za odvozovanie na určenom mieste zberu na recykláciu elektrického a elektrónického odpadu. Odovzdáním na správnu recykláciu pomáhati pri zabranovaní zbytočnému zatahovaniu prírody a životnému prostrediu, týmto produktom a chránenie fudskeho zdravia. Viac informácií o správnej likvidácii vám poskytne lokálny mestský úrad, servis na likvidáciu domáceho odpadu alebo personal predajne, kde ste produkt zakúpili.

**HUN** - Magánélezőkhoz használt berendezések hulladékának kezelése az Európai Unióban. Az ábra azt jelenti, hogy a termék nem dobbanhat el héjtártási hulladéként. Az elektromos és elektronikus berendezések olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek helyes újrahasznosítás hiányában kárt tehetnek az emberi egészségében és a környezetben. Az Ön feladata, hogy lelassítsa az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosításra létesített gyűjtőhelyen. Iggy megelőzi, hogy ezek a termékek elkerülhető kárt legyenek a természetben, a környezetben, és védi az emberi egészséget. A hulladékkezelés meglező módonról a helyi önkormányzatnál, a héjtártási hulladék elszállítását végző szolgáltatónlál vagy a termék vásárlása szerinti üzletbeli érdeklődhet.

**ROM** • Eliminarea deșeurilor de echipamente din cadrul utilizatorilor din gospodăriile particulare din Uniunea Europeană. Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșurile menajere ale gospodării dvs. Echipamentele electrice și electronice conțin substanțe care pot dăuna sănătății umane și mediului dacă nu sunt

reciclate corect. Este responsabilitatea dvs. să le predați la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate. Prendându-le pentru o reciclare corecta, ajutați la prevenirea impactului inutl al acestui produs asupra naturii și mediului și la protejarea sănătății umane. Pentru mai multe informații referitoare la eliminarea corectă, contactați biroul local din orașul dvs., serviciul de salubritate aferent gospodării dvs. sau magazinul de la care ați achiziționat acest produs.

**CZE** - Likvidace zařízení po ukončení jejich používání uživateli v soukromých domácnostech v zemích Evropské Unie. Tento symbol označuje, že výrobek nelze likvidovat jako běžný domovní odpad. Elektrická a elektronická zařízení obsahují látky, které mohou být škodlivé lidskému zdraví a životnímu prostředí, pokud by nebyly odpovídajícím způsobem recyklovány. Je vaša odpovědnost, abyste zařízení odevzdali v místě určeném pro sběr elektrických a elektronických zařízení určených k recyklaci. Když předáte výrobky k odpovídající recyklaci, pomáháte zabránit, aby zbytečně zatěžovaly přírodu a životní prostředí, a chránit lidské zdraví. Další informace týkající se správné likvidace získáte na místním úřadě, ve vaši službě zajímatéjící likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste produkt zakoupili.

**SVN** - Odstranjevanje odpadne opreme s strani uporabnikov v zasebnih gospodinjstvih v Evropski uniji. Ta simbol označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z vsemi ostalimi gospodinjskimi odpadki. Električna in elektronska oprema vsebuje snovi, ki lahko škodujejo zdravju ljudi in okolju, če niso pravilno reciklirani. Vaša odgovornost je, da ta odpad prenesete na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Pri predaji za pravilno recikliranje pomagate preprečiti, da bi ti izdelki po nepotrebnem onesnažili naravo in okolje ter ščitite zdravje ljudi. Za več informacij o pravilnem odstranjevanju se obrite na lokalno mestno oblast, službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili ta izdelek.

**GRC** - Απόρριψη αποβλήτων εξπομπών από χρήστες σε οικιακού περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξπομπών περιβόλου ουσίες που μπορούν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον εάν δεν ανακυκλωθούν σωστά. Η παράδοση σε καπάλληκο σημείο περιπολικούς για ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξπομπών είναι δική σας ευθύνη. Με την παράδοση στη σωστή ανακύκλωση συμβάλλετε στην αποτροπή της περιπτώσης επιβύρωσης της φύσης και του περιβάλλοντο από αυτά τα προϊόντα και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή αποκομιδή, επικονιάζετε με το τοπικό δημότικο γραφείο, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το καπάλληκο όπου αγοράστε το προϊόν.

**TUR** - Anıvara Birliğnde yaşayın en kullanımının kullandığı atık ekipmanları atılmamıştır. Bu simbol, ürünün diğer evsel atıklarla birlikte atılmamasını gerektiriyor. Električ ve elektronik ekipmanlar, doğru şekilde geri dönüşümü sağlanamazsa insan sağlığı ve çevreye zararı olabilecek maddeler içeri. Atık električ ve elektronik ekipmanları belli birlerinden geri dönüşüm noktalardan bırakılmış sizin sorumluluğunuza dayandırır. Doğru geri dönüşüm noktasında eslim ederek bu ürünlerin doğaya ve çevreye zarar vermesini engeller ve insan sağlığını korumayı olursunuz. Doğru atık imha yolu hakkında daha fazla bilgi için, lütfen yerel büro, evsel atık imha servisi ya da ürün adlı firmaya mağaza ile iletişim geçin.

**BGR** - Изахисяне на отпадъчно оборудване от потребители в частни домакинства в Европейския съюз. Този символ показва, че този продукт не бива да бъде изхисян в звездички с останалите в битови отпадъци. Електрическото и електронното оборудване съдържа вещества, които могат да навредят на здравето на хората и на околната среда, ако не се рециклират правилно. Вие носите отговорност за предаването отпадъчното електрическо и електронно оборудване за рециклиране в съответния пункт. Когато предавате продукти за правилно рециклиране, вие спомагате за предотвратяването на излишно замърсяване на природата и околната среда и за предпазването на човешкото здраве. За повече информация относно правилното изхисяне, моля, свържете се с местната община, вашата служба за битови отпадъци или магазина, от която сте закупили този продукт.

**SRB** - Odlaganje otpadne opreme korisnicu u privatnim domaćinstvima u Evropskoj uniji. Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Električna i elektronska oprema sadrže supstance koje mogu biti štetne po zdravlju ljudi i životnu sredinu ukoliko se ne recikliraju pravilno. Vaša je odgovornost da odlagajte na određenu mjestu za recikliranje radi recikliranja. Predajom ove opreme radi recikliranja pomaze da se spreči nepotrebno ugrožavanje prirode i životnog okoliša te zaštiti ljudsko zdravje. Više informacija o pravilnom odlaganju potražite u lokalnoj gradskoj službi, vašoj komunalnoj službi za otpad ili u dućanu u kojem ste kupili ovaj proizvod.

prikupljanje i recikliranje otpada te vrsta. Predavanjem ovih proizvoda na ispravnu reciklažu spričavate nepotrebno zagadživanje prirode i životne sredine i štite zdravje ljudi. Za više informacija o ispravnom odlađivanju obratite se lokalnoj kancleriji, službi za uklanjanje kućnog otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

**RUS** - Утилизация отслужившего оборудования частными домашними хозяйствами в Европейском Союзе. Этот символ означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с другими хозяйственными отходами. Электрическое и электронное оборудование содержит вещества, которые при неправильной утилизации могут нанести вред окружающей среде и здоровью людей. Вы должны передать отходы на специализированный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования. Передавая отходы для правильной переработки, вы помогаете защищать здоровье людей и снизить нагрузку, создаваемую этими отходами на природу и окружающую нас среду. Более подробную информацию о правильной утилизации вы можете получить в городской администрации, службе по вывозу и утилизации отходов или в магазинах, где вы купили это изделие.

لطفاً حفظوا هذه الماركة على ملحقاتها الضوئية

لعام ٢٠١٣م، وليتم إرجاعها إلى متجر بيعها أو مقر الشركة المصنعة.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها. يرجى اتباع إرشادات التدوير والتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، وذلك لضمان حماية البيئة والصحة العامة. يرجى اتباع إرشادات التدوير والتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، وذلك لضمان حماية البيئة والصحة العامة.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.

للتخلص من الأجهزة الكهربائية والكهربائية، يرجى إلقاءها في المكان المخصص لذلك، حيث يتم تدويرها وإعادة تدويرها.



**DNK** - Monteringsvejledningen må ikke bortkastes.

**SWE** - Kasta inte bort monteringsvägledningen.

**NOR** - Monteringsveileidningen må ikke kastes.

**ISL** - Gaðið þess að glata ekki leiðbeiningum um uppsetningu.

**NLD** - Gooi de monteerinstructies niet weg.

**FRA** - Mettre à disposition l'instruction de montage.

**DEU** - Die Montageanleitung bitte aufbewahren.

**GBR** - The mounting instruction must not be discarded.

**ESP** - No desechar la instrucción de montaje.

**PRT** - As instruções de montagem não devem ser descartadas.

**ITA** - Le istruzioni di montaggio non devono essere gettate via.

**FIN** - Älä heitäkää asennusohjeita.

**POL** - Nie należy丢弃此组装说明。

**LVA** - Saglabāt uzstādīšanas instrukciju.

**LTU** - Neišmėginkite montavimo instrukcijos.

**SVK** - Pokyny pre montáž nesmiete zahodiť.

**HUN** - A szerelési útmutatót nem szabad elhagyni.

**ROM** - Instrucțiunile de montaj nu trebuie aruncate.

**CZE** - Uložte montažní návod pečlivě.

**SVN** - Pokyny pre montáž nesmiete zahodiť.

**GRC** - Μην ταράξετε τη σύριγκη τοποθέτησης.

**TUR** - Montaj talimatları atılmamalıdır.

**BGR** - Упътването за монтаж да се съхраня.

**SRB** - Не сме се бачат употребство за монтиране.

**RUS** - Обязательно сохраните инструкцию по монтажу.

بمجرد تخلص من ملحقات ضوء جن جن

**nordlux®**

[www.nordlux.com](http://www.nordlux.com)

Nordlux A/S · Østre Havnegade 34 · DK-9000 Aalborg

Monteringsanvisning | Montageanleitung | Mounting instruction | Instructions avmontering | Instructions de montage | Montage-instruktioner

